

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَ عَدَدَهُ
(2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي
الْحُطَمَةِ (4) وَ مَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ
الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا
عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (9)

Woe to every (kind of) scandal-monger and backbiter, who pileth up wealth and layeth it by, thinking that his wealth would make him last for ever! By no means! He will be sure to be thrown into that which breaks to pieces, and what will explain to thee that which breaks to pieces? (It is) the fire of Allah kindled (to a blaze), the which doth mount (right) to the hearts: it shall be made into a vault over them, in columns outstretched.

تباہی ہے ہر اُس شخص کے لیے جو (منہ در منہ) لوگوں پر طعن اور (پیٹھ پیچھے)
برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اُسے گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا
ہے کہ اُس کا مال ہمیشہ اُس کے پاس رہے گا۔ ہر گز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر
دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے

والی جگہ؟ اللہ کی آگ، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچے گی۔ وہ اُن پر

ڈھانک کر بند کر دی جائے گی (اس حالت میں کہ وہ) اونچے اونچے ستونوں میں

(گھرے ہوئے ہوں گے)۔

تباہی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو (مُہ-در-مُہ) لوگوں پر تان اور (پیٹ پیٹھے) بُراڈیا کرنے کا خُور ہے، جس نے مال جما کیا اور اسے گین-گین کر رکھا | وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اُن کے پاس رہے گا | ہر گز نہیں، وہ شخص تو چکناچُور کر دینے والی جگہ میں فینک دیا جائے گا | اور تُو کُیا جَانو کُیا ہے وہ چکناچُور کر دینے والی جگہ؟ اَللّٰہ کی آگ، خُوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچے گی | وہ اُن پر ڈھانک کر دی جائے گی (اس حالت میں کہ وہ) اونچے اونچے ستونوں میں (گھرے ہوئے ہوں گے)۔